

# حَبِيدٌ مَجِيدٌ ۞

مید مجید ہے

(۸۶) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درود

حضرت ابو سعید انصاریؓ سے روایت ہے کہ ہم سعد بن عبادہ کے مکان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو حاضرین محفل میں سے بشیر بن سعد نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ نے زرد پڑھنے کا حکم دیا ہے یا رسول اللہ ہم کس طرح آپ پر درود پاک پڑھیں صحابہ کا بیان ہے کہ آپ بخوڑی دیر خاموش رہے آخر ہمارے دل میں یہ بات اٹھی کہ کاش ہم نہ پوچھتے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر یوں درود پڑھو (موطا امام مالک ص ۱۴۲)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود نازل فرما سیدنا محمدؐ اور سیدنا محمد کی آل پر اور

بَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ

برکت و سلام بھیج سیدنا محمدؐ اور سیدنا محمد کی آل پر اور رحمت فرما

مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ

سیدنا محمدؐ کی اولاد پر جیسا کہ تو نے درود و برکت اور

بَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى

رحمت نازل فرمائی سیدنا ابراہیمؑ اور آل

آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ

سیدنا ابراہیمؑ پر سارے جہانوں میں ، بے شک تو

# حَبِيدٌ مَجِيدٌ ۞

تقریب کیا گیا بزرگ ہے

(۸۷) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور درود

یہ درود بھی درود ابراہیمی ہے مگر اس درود کے الفاظ میں عام درود ابراہیمی کی نسبت لفظ رحمت کا اضافہ ہے اور ایک حدیث میں اسی طرح مذکور ہوا ہے استفادہ کی غرض سے درج کر دیا گیا ہے لہذا جو شخص اس درود پاک کا ورد کرے گا اسے درود ابراہیمی جسے فوائد حاصل ہوں گے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

اے اللہ درود نازل فرما سیدنا محمدؐ اور آل سیدنا محمدؐ پر جس طرح تو نے درود

صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ

نازل فرمایا سیدنا ابراہیمؑ اور آل سیدنا ابراہیمؑ پر اور برکت نازل

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى

فرمایا سیدنا محمدؐ اور آل سیدنا محمدؐ پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی

إِبْرَاهِيمَ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

حضرت ابراہیمؑ پر اور رحمت بھیج سیدنا محمدؐ اور آل سیدنا محمدؐ پر

مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى

جس طرح تو نے رحمت بھیجی سیدنا ابراہیمؑ پر اور سیدنا

آلِ إِبْرَاهِيمَ ۞

ابراہیم کی اولاد پر